



جب تم میں سے کوئی وضو کرے، تو اپنی ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑے، اور جو ڈھیلوں سے استنجا کرے، وہ طاق عدد میں ڈھیلے استعمال کرے

ابو ریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: "جب تم میں سے کوئی وضو کرے، تو اپنی ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑے، اور جو ڈھیلوں سے استنجا کرے، وہ طاق عدد میں ڈھیلے استعمال کرے اور جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگے، تو اپنے ہاتھوں کو وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے دھو لے، کیوں کہ تم میں سے کسی کو نیند سے جاگنے کی رات کے وقت اس کا ہاتھ کھارے گا؟" صحیح مسلم کے الفاظ ہیں: "جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگے، تو اپنے ہاتھ کو برتن میں اس وقت تک نہ ڈبوئے، جب تک اسے تین بار نہ دھو لے کیوں کہ اسے نیند سے جاگنے کی رات کے وقت اس کا ہاتھ کھارے گا؟" [صحیح] [متفق علیہ]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے بعض احکام بیان کیے ہیں جیسے: 1- وضو کرنے والا اپنی ناک میں سانس کے ساتھ پانی اندر داخل کرے اور پھر سانس کے ساتھ ہی اسے باہر نکال دے 2- جو شخص پیشاب پاخانہ کے بعد پانی کی بجائے کسی اور چیز، جیسے پتھر اور ڈھیلوں وغیرہ کے ذریعے گندگی کو صاف کرنا چاہے، وہ پتھر اور ڈھیلوں کا استعمال طاق عدد میں کرے کم سے کم تعداد تین ہو اور زیادہ سے زیادہ اتنی، جس سے پیشاب پاخانہ وغیرہ نکلنا بند ہو جائے اور نکلنے کی جگہ صاف ہو جائے 3- جو شخص رات کے وقت سوکر اٹھے، وہ وضو کے لیے اپنا ہاتھ برتن کے اندر اس وقت تک نہ ڈالے، جب تک اسے برتن سے باہر تین بار دھو نہ لے کیوں کہ اسے نیند سے جاگنے کا ہاتھ رات میں کھارے گا اور اسے گندے ہونے کا امکان رہتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ کے ساتھ شیطان نے کھیلا ہو اور اس میں کوئی ایسی چیز لگا دی ہو، جو انسان کے لیے نقصان دہ اور پانی کو گندے کرنے والی ہو

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3033>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

